

نمونہ خط

مکرمی والدین /سرپرست:

تعلیمی سال 2015-2016 کے دوران آپ کے بچے کو 1973 بحالی ایکٹ (Rehabilitation Act) سیکشن 504 کے تحت اسکول میں صحتی خدمت (خدمات) اور / یا سہولیات حاصل ہونے (مثلاً، دوا لینا) کی منظوری ملی تھی۔ صحتی خدمات کی فراہمی اور 504 سہولیات کے رہنمائی خطوط کے مطابق، ہر اسکولی سال میں ایک نئی منظوری مطلوب ہے۔ یہ نئی منظوری اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو ان مناسب خدمات کی اب تک ضرورت ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ مناسب خدمات موصول کرے۔ جدید منظوری کے فارم یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے بچے کو آپ کے خاندانی معالج کی ہدایات کے مطابق صحیح طبی امداد دستیاب ہو اور یہ کہ طبی طریق کار، مقدار، وقت، ناموافق تاثیر وغیرہ میں پچھلے سال کے دوران کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ یہ معلومات اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ فراہم کنندہ آپ کے بچے کو مناسب طور سے خدمت فراہم کرنے کے قابل ہو۔

چونکہ بہت سے والدین اپنے بچوں کے سالانہ اور کیمپ کے طبی معائنے سال میں اس وقت کرواتے ہیں، ہم آپ کی آنے والے اسکولی سال کے لیے تیار ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگر مطلوب ہو، تو اپنے بچے کے معالج سے 2016-2017 اسکولی سال کے لیے مناسب فارمز مکمل کروانے کی درخواست کرتے ہیں۔

اس غرض سے، براہ کرم اپنے خاندانی معالج/ طبی نگہداشت فراہم کنندہ سے مناسب منسلک صحتی خدمات اور / یا 504 سہولیات کے فارم (فارمز) کو واضح طور سے مکمل اور دستخط کروائیں۔

برائے کرم دوا کے فارم کے اوپر کے بائیں کونے پر ایک چھوٹی اور جدید تصویر لگا دیں تاکہ آپ کے بچے کی درست شناخت ہو سکے۔

منظوری فارم کو اسکول کے آخری دن سے قبل آپ کے بچے کے اسکول کو واپس یا موسم گرما میں ذیل پر ارسال کیے جا سکتے ہیں:

نئے اسکولی سال کے آغاز میں ان خدمات کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے، تکمیل شدہ فارمز 29 جولائی، 2016، تک واپس کیے جانے چاہئیں۔

مخلص،